

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنتَاهُمْ تَصْرُتًا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبِ الْأُمْرُسَلِينَ
 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ
 وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۚ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
 مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ سَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَشِيقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے

قرآن : الانعام 6:34 المائدہ 5:46-48

اور البتہ رسول جھوٹ لائے گئے، آپ سے پہلے، پس انہوں نے صبر کیا اُس پر جو وہ جھوٹ لائے گئے اور ستائے گئے یاں تک کی اُن پر ہماری
 مدد آگئی، اور [کوئی] بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو، اور البتہ آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں⁽³⁴⁾

المائدہ 5:46-48

اور ہم نے انہیں پیغمبروں کے قدم ب قدم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا اور وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتے تھے جو ان کے سامنے
 [پہلے سے] موجود تھی اور ہم نے ان کو انجیل [بھی] عطا کی جس میں [لوگوں کے لئے] ہر طرح کی [ہدایت تھی اور نور [ایمان]] اور وہ
 اس کتاب توریت کی جو وقتہ نزولی انجیل [پہلے سے] موجود تھی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کی [ہدایت اور نصیحت تھی] اور
 انجیل والوں [نصاریوں] کو جو کچھ خدا نے [اُس میں] نازل کیا اُس کے مطابق حکم کرنا چاہئے اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی
 [کتاب کے موافق] حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں⁽⁴⁷⁾ اور [رسول] ہم نے تم پر بھی برحق کتاب نازل کی جو کتاب [اُس کے لئے]
 [س] اُس کے وقت میں موجود ہے اُس کی تصدیق کرتی ہے اور اُس کی ننگہ بیان [بھی] ہے جو کچھ تم پر خدا نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق
 تم بھی حکم دو اور جو حق بات خدا کی طرف سے آچکی ہے اس سے کترا کر اُن لوگوں کی خواہشیں نفسیانی کی پیروی نہ کرو اور ہم نے
 تم میں ہر ایک کے واسطے [حسب مصلحتہ وقت] ایک ایک شریعت اور خاص طریقہ پر مقرر کر دیا اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کے سب کو
 ایک [شریعت کی] اُمّت بنا دیتا مگر [مختلف شریعتوں سے] خدا کا مطلب یہ تھا کی جو کچھ تم میں دیا ہے اُس میں تمہارا امتحان کر
 بس تم نیکی میں لپک کر آگے بڑھ جاؤ اور [یقین جانو کی] تم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے⁽⁴⁸⁾